

بنیادی مینو - اکتوبر 2017 - مارچ 2018

جمعہ	جمعرات	بدھ	منگل	پیر	وبلیو/سی
				<b>ہفتہ 1</b>	
فش فنگرز اور ٹماٹر کا کیچپ چپس بیک کیے ہوئے آلو سیب اور بلیک بیری لو کیک	روسٹ کیا ہوا چکن اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو بند گوبھی اور گاجرین مکسڈ سرد میٹھا	بیل سالمون شکر قندی کا میٹھا باغیچے کے مٹر اور میٹھی مکئی میٹھے چاکلیٹ اور ناشپاتی کا کرمبل اور چاکلیٹ کا کسٹرڈ	روسٹ کیا ہوا بیف، پورکشانر پڈنگ اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو بروکولی، گوبھی اور گاجر کا مکس مکسڈ سرد میٹھا	بیک شدہ سؤر کے ساسیجز اور گریوی آلو کا انتخاب سبز پھلیاں آنیسکریم	30 اکتوبر، 20 نومبر، 11 دسمبر 2017 8 & 29 جنوری، 26 فروری، 19 مارچ 2018
شکر قندی اور دال کی کڑی چاول نان بریڈ باغیچے کے مٹر سیب اور بلیک بیری لو کیک	سبزی کے ساسیجز اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو بند گوبھی اور گاجرین مکسڈ سرد میٹھا	پیزا باغیچے کے مٹر اور میٹھی مکئی میٹھے چاکلیٹ اور ناشپاتی کا کرمبل اور چاکلیٹ کسٹرڈ	فورن برگر، پورکشانر پڈنگ اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو بروکولی، گوبھی اور گاجر کا مکس مکسڈ سرد میٹھا	اطالوی ٹماٹر کا پاستہ ادرک والی بریڈ سبز پھلیاں آنیسکریم	
				<b>ہفتہ 2</b>	
بیٹرڈ فش اور ٹماٹر کا کیچپ چپس باغیچے کے مٹر فروٹی چاکلیٹ بیک	چکن اور میٹھی مکئی کا پانی میش کیے ہوئے آلو گاجر اور سویڈے اور سبز پھلیاں مکسڈ سرد میٹھا	سبزی کی چلی چاول بروکولی جمبل بسکٹ	روسٹ کیا ہوا سؤر اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو بروکولی، گوبھی اور گاجر کا مکس مکسڈ سرد میٹھا	بیم اور چیز میکرونی ادرک کی بریڈ سبزیوں پھل کی سموڈیز یا آرگینک ایپل لولی کا ٹرایو	6 & 27 نومبر، 18 دسمبر، 2017، 15 جنوری 5 فروری، 5 & 26 مارچ 2018
باربی کیو اور پھلیوں کا ریپ باغیچے کے مٹر فروٹی چاکلیٹ بیک	سبزی کے قوجونز اور گریوی میش کیے ہوئے آلو گاجر اور سویڈی اور سبز پھلیاں مکسڈ سرد میٹھا	پیزا قوس قزح والی میٹھی مکئی سالسہ سلاد جمبل بسکٹ	سبزی کے ساسیج کا پف اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو بروکولی، گوبھی اور گاجر کا مکس مکسڈ سرد میٹھا	فورن برگر اور گریوی جڑی بوٹی والے کٹے ہوئے آلو پھلوں کی سموڈیز یا آرگینک ایپل لولی	
				<b>ہفتہ 3</b>	
فش فنگرز اور ٹماٹر کا کیچپ چپس بیک شدہ پھلیاں سب کا ٹاکو	روسٹ کیا ہوا سؤر اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو سبز پھلیاں، کٹی ہوئی گاجرین مکسڈ سرد میٹھے	تھائی چکن کڑی چاول نان بریڈ باغیچے کے مٹر اسٹریٹ کلیمینٹس اسفنج اور کسٹرڈ	روسٹ کیے ہوئے چکن اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو بروکولی، گوبھی اور گاجر کا مکس مکسڈ سرد میٹھے	ساسیج رول ٹماٹر کا ریلش میش کیے ہوئے آلو باغیچے کے مٹر قدرتی دبی کے ساتھ پھل	13 نومبر، 4 دسمبر 2017 1 & 22 جنوری، 19 فروری، 12 مارچ 2018
روسٹ کیا ہوا سبزی کا پاستہ ادرک والی بریڈ باغیچے کے مٹر سیب کا ٹاکو	سبزی کے لیٹس سلانس اور گریوی روسٹ کیے ہوئے آلو سبز پھلیاں اور کٹی ہوئی گاجرین مکسڈ سرد میٹھا	پیزا باغیچے کے مٹر اسٹریٹ کلیمینٹس اسفنج اور کسٹرڈ	گوشت سے پاک سبزی کی گیندیں گریوی میں روسٹ کیے ہوئے آلو بروکولی، گوبھی اور گاجر کا مکس مکسڈ سرد میٹھا	سبزی کے کاتچ پانی باغیچے کے مٹر قدرتی دبی کے ساتھ پھل	

اضافی بریڈ اور سلاد روزانہ دستیاب ہوں گے

کیلا، سیب، اورینج، دبی، چاولوں کا پاٹ، پھلوں کا پاٹ، پنیر اور بسکٹس یا فروٹ جوس روزانہ  
دستیاب ہوں گے